

سوال

حدیث (جس کا میں ولی ہوں علی (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) بھی اس کے ولی ہیں) اس حدیث کی صحت کیسی اور معنی کیا ہے؟ میں آپ کا مشکور ہوں۔

پسندیدہ جواب

الحمد لله.

الحمد لله

یہ حدیث ترمذی حدیث نمبر (3713) ابن ماجہ حدیث نمبر (121) نے روایت کی ہے اور اس کے صحیح ہونے میں اختلاف ہے ، زیلعی رحمہ اللہ تعالیٰ نے ہدایہ کی تخریج (1 / 189) میں کہا ہے کہ :

کتنی ہی ایسی روایات ہیں جن کے راویوں کی کثرت اور متعدد طرق سے بیان کی جاتیں ہیں ، حالانکہ وہ حدیث ضعیف ہوتی ہے ۔ جیسا کہ حدیث (جس کا میں ولی ہوں علی (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) بھی اس کے ولی ہیں) بھی ہے ۔

شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں :

یہ قول (جس کا میں ولی ہوں علی (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) بھی اس کے ولی ہیں) یہ صحیح کتابوں میں تو نہیں لیکن علماء نے اسے بیان کیا اور اس کی تصحیح میں اختلاف کیا ہے ۔

امام بخاری اور ابراہیم حربی محدثین کے ایک گروہ سے یہ منقول ہے کہ انہوں نے اس قول میں طعن کیا ہے --- لیکن اس کے بعد والا قول (اللهم وال من والاه وعاد من عاداه) آخر تک ، تو یہ بلاشبہ کذب افتراء ہے ۔

دیکھیں منہاج السنۃ (7 / 319) ۔

امام ذہبی رحمہ اللہ تعالیٰ اس حدیث کے بارہ میں کہتے ہیں :

حدیث (من كنت مولاہ) کے کئی طریق جید ہیں ، اور علامہ البانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے السلسلۃ الصحیحۃ حدیث نمبر (1750) میں اس کی تصحیح کرنے کے بعد اس حدیث کو ضعیف کہنے والوں کا مناقشہ کیا ہے ۔

اور اگر یہ جملہ (من كنت مولاہ فعلی مولاہ) صحیح بھی مان لیا جائے اور اس کے صحیح ہونے سے کسی بھی حال

میں یہ حدیث میں ان کلمات کی زیادتی کی دلیل نہیں بن سکتی جس کا غالیوں نے حدیث میں اضافہ کیا ہے تاکہ وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باقی سب صحابہ سے افضل قرار دے سکیں ، یا پھر باقی صحابہ پر طعن کرسکیں کہ انہوں نے ان کا حق سلب کیا تھا ۔

شیخ الاسلام نے ان زیادات اور ان کے ضعیف ہونے کا ذکر منهاج السنۃ میں دس مقامات پر کیا ہے ۔

اس حدیث کے معنی میں بھی اختلاف کیا گیا ہے ، توجوب بھی معنی ہو وہ احادیث صحیحہ میں جو یہ ثابت اور معروف ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت میں افضل ترین شخصیت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور خلافت کے بھی وہی زیادہ حق دار تھے ان کے بعد عمر بن الخطاب اور پھر عثمان بن عفان اور ان کے بعد علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے تعارض نہیں رکھتا ، اس لیے کہ کسی ایک صحابی کی کسی چیز میں معین فضیلت اس پر دلالت نہیں کرتی کہ وہ سب صحابہ سے افضل ہیں ، اور نہ ہی ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صحابہ کرام میں سب سے افضل ہونا اس کے منافی ہے جیسا کہ عقائد کے باب میں یہ مقرر شدہ بات ہے ۔

اس حدیث کے جو معانی ذکر کیے گئے ہیں ان میں کچھ کا ذکر کیا جاتا ہے :

ان کے معنی میں یہ کہا گیا ہے کہ :

یہاں پر مولا ولی جو کہ عدو کی ضد ہے کے معنی میں ہے تو معنی یہ ہوگا ، جس سے میں محبت کرتا ہوں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس سے محبت کرتے ہیں ، اور یہ بھی معنی کیا گیا ہے کہ : جو مجھ سے محبت کرتا ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے محبت کرتے ہیں ، یہ معنی قاری نے بعض علماء سے ذکر کیا ہے ۔

اور امام جزری رحمہ اللہ تعالیٰ نے نہایہ میں کہا ہے کہ :

حدیث میں مولیٰ کا ذکر کئی ایک بار ہوا ہے ، یہ ایک ایسا اسم ہے جو بہت سے معانی پر واقع ہوتا ہے ، اس کے معانی میں : الرب ، المالک ، السید ، المنعم (نتمتیں کرنے والا) ، المعتق آزاد کرنے والا) ، الناصر (مدد کرنے والا) ، المحب (محبت کرنے والا) ، التابع (پیروی کرنے والا) ، الجار (پڑوسی) ، ابن العم (چچا کا بیٹا) ، حلیف ، العقید (فوجی افسر) ، الصهر (داماد) العبد (غلام) ، العتق (آزاد کیا گیا) ، المنعم علیہ (جس پر نعمتیں کی جائیں) ۔

ان معانی میں سے اکثر تو حدیث میں وارد ہیں جن کا اضافت کے اعتبار سے معنی کیا جاتا ہے ، تو جس نے بھی کوئی کام کیا یا وہ کام اس کے سپرد ہوا تو اس کا مولا اور ولی ہے ، اور حدیث مذکورہ کوان مذکورہ اسماء میں سے اکثر پر محمول کیا جا سکتا ہے ۔

امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس سے اسلام کی ولاء مراد ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں ہے :

یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کا مولیٰ ومددگار ہے اور کافروں کا کوئی بھی مولیٰ ومددگار نہیں ۔

اورطیبی رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں :

حدیث میں مذکور ولایہ کو اس امامت پر محمول کرنا صحیح نہیں جو مسلمانوں کے امور میں تصرف ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں مستقل طور پر تصرف کرنے والے تونبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں ان کے علاوہ کوئی اور نہیں تو اس لیے اسے محبت اور ولاء اسلام اور اس جیسے معانی پر محمول کرنا ضروری ہے ۔

دیکھیں تحفة الاحوذی لشرح الترمذی حدیث نمبر (3713) اس کی عبارت میں کچھ تصرف کر کے پیش کیا گیا ہے ۔

واللہ تعالیٰ اعلم .